

اور بعض اور مصنفین اسلام نے بدلائل یہ ثابت کیلئے کہ مسلمانوں کو ایران اور روم میں جو فتوحات حاصل ہوئیں ان کے اسباب کے سلسلے میں یہ کہنا سزا سے غلط ہے کہ یہ دونوں حکومتیں اندرونی اختلافات چھوٹے اور بڑے کے امتیازات۔ اور ایک عام اٹار کی پیدا ہو جانے کے باعث خود کمزور پڑ چکی تھیں، اسی طرح ذمیوں کی نسبت مطلقاً یہ کہنا کہ وہ اپنی معاشرتی کمتری کو دور کرنے کے لئے جوق در جوق مسلمان ہوتے تھے۔ صحیح نہیں ہے۔ ان چند باتوں کو چھوڑ کر کتاب بحیثیت مجموعی تاریخی اعتبار سے قابل قدر اور صاحب ذوق کے مطالعہ کے لائق ہے۔

سیرت شہید کربلا | جلد دوم مترجمہ مولوی محمد ایوب صاحب عثمانی تقطیع بڑی ضخامت ۳۲۲ صفحات کتابت طباعت عمدہ قیمت ۱۰ روپے ۱۰۔ مکتبہ معارف القرآن اورنگ آباد ضلع گیا۔

مولوی محمد ایوب صاحب عثمانی مصر کے ایک فاضل کی مشہور کتاب الحین کا ترجمہ پہلے شائع کیے ہیں اور وہ اہل علم میں مقبول ہو چکا ہے اب انھوں نے اس کتاب کے دوسرے حصہ کا ترجمہ کیلئے یہ ترجمہ بھی پہلے حصہ کی طرح سلیس اور رواں ہے۔ اردو میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی پر ایسی کوئی مفصل اور معتبر تصنیف موجود نہیں تھی۔ لائق مترجم نے اس کتاب کو اردو میں منتقل کر کے ایک بڑی کمی کو پورا کر دیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ مسلمان اسکی قدرا فزائی کریں گے۔

معمار اعظم | از جناب عزیز احمد صاحب استاد شعبہ انگریزی جامعہ عثمانیہ تقطیع ۲۲۶×۱۸ ضخامت ۱۷۵ صفحات کتابت طباعت متوسط قیمت ۱۲ روپے کا پتہ: ناخمن ترقی اردو (ہند) دہلی

یہ کتاب البسن کے ڈرامہ (The Master Builder) کا ترجمہ ہے۔ جس میں اس نے اپنی زندگی کے اور اپنے وطن مالون ناروے کے معاشرتی و اقتصادی حالات جو اس نے ستائیس برس تک بردیس میں رہنے کے بعد یہاں آ کر دیکھے اور تقریباً ۱۸۹۰ء میں پہلے کے ادبی محاذ کی کیفیات قلبندگی ہیں۔ ڈرامہ اگرچہ بڑی حد تک شخصی اور ذاتی حیثیت رکھتا ہے